

برامپٹن، سٹیزن ایوارڈز کے ذریعے کمیونٹی کے ممتاز ممبران کی شاندار کارکردگیوں کی خوشیاں منا رہا ہے

برامپٹن، آن (3 جون 2021) – اس سال سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کی 175 سے زائد ایسی ممتاز شخصیات کی شاندار خدمات کا اعتراف کر رہا ہے، جنہوں نے سال 2019 اور 2020 کے دوران اپنے شعبوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے 1974 میں آغاز کے بعد اب تک 3,500 سے زیادہ ایسے ممتاز شہریوں کی شاندار کارکردگیوں کو تسلیم کیا گیا ہے، جنہیں ہمارے شہریوں نے درج ذیل سات زمروں کے لیے منتخب کیا تھا:

- کھیلوں کے شعبے میں کارنامے - اس زمرے میں صوبائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے شعبوں میں شاندار کارکردگیوں کا مظاہرہ کرنے والے افراد اور ٹیموں کی خدمات کے اعتراف کے لیے؛
- آرٹس اکلیم - کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کسی فن کے شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہو؛
- انسپائریشنل ایوارڈ - کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلیٰ مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں؛
- لانگ ٹرم سروس ایوارڈ - 10 سال، 25 سال اور 35 سال کے زمرہ جات میں ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی کاوشوں نے تفریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز پر قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں؛
- ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور - کے ذریعے ایسے فرد یا افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے دوسروں کی زندگی/زندگیوں کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہو؛
- سٹیزن آف دی ایئر - کے ذریعے ایسے رضاکاروں کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے کسی مخصوص سرگرمی یا کردار کے بجائے پوری کمیونٹی میں اپنی شمولیت ظاہر کی ہو۔ نوجوانوں، بالغان اور بزرگ افراد کو دیے جانے والے اس ایوارڈ کے ذریعے ایسے لوگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے، جنہوں نے کمیونٹیز کو بنایا ہو اور یہ ثابت کیا ہو کہ جذبے اور حوصلے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا؛ اور،
- دی کین جانلز امیچونر اتھلیٹ آف دی ایئر ایوارڈ - یہ ایوارڈ برامپٹن گارڈین اخبار کی شراکت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس میں ایسے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے جنہوں نے کھیلوں کے اپنے متعلقہ شعبوں میں روایت سے ہٹ کر کسی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔

نامزدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیونٹی کے ممبران پر مشتمل سٹیزنز ایوارڈز سلیکشن کمیٹی، ایوارڈز کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے پیشہ وارانہ ماہرین، برامپٹن کونسلرز، والنٹیئر MBC، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن اسپورٹس انانس، برامپٹن سینٹرز کونسل اور پبل ریجنل پولیس مل کر کام کرتے ہیں۔

2019 اور 2020 کے فاتحین کی فہرست دیکھنے کے لیے، براہ کرم [سٹی آف برامپٹن | سٹیزنز ایوارڈز](#) ملاحظہ کریں۔ ایوارڈ جیتنے والوں کی خدمات کا اعتراف سوشل میڈیا، اشتہارات اور کمیونٹی میں پوسٹر آویزاں کر کے کیا جائے گا۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن کو فخر ہے کہ وہ کمیونٹی کے بہت سارے قابل فخر شہریوں کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور کھیلوں اور فنون لطیفہ میں ان کی قابل ستائش کامیابیوں کا جشن مناتا ہے؛ طویل مدتی رضاکارانہ خدمات کے علاوہ؛ بہادری کے کارناموں؛ متاثر کن کاموں اور برامپٹن کے 'سٹیزن آف دی ایئر' کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 کی عالمی وباء پھوٹنے سے پہلے اور بعد کے ادوار میں ہمارے رہائشیوں کے کاربائے نمایاں کا برملا اعتراف کرنا اور ان کی خوشیاں منانا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ فنون اور کھیلوں کے میدانوں میں جن لوگوں نے بہت فراخدلی سے اپنا وقت دیا اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی تعداد واقعی قابل ذکر ہے۔ مجھے برامپٹن کی اپنی کمیونٹی کے اس جذبے پر بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، برامپٹن سٹیزن ایوارڈز؛ سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 کی عالمی وبائی بیماری کی وجہ سے، پچھلے سال سٹی 2019 کے برامپٹن سٹیزن ایوارڈ وصول کنندگان کی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی قسم کی بالمشافہ تقریبات منعقد کرنے سے قاصر رہا ہے۔ اس سال ہم بہت سے ایسے لوگوں کی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں گے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور 2019 اور 2020 میں شاندار ذاتی کامیابیاں حاصل کیں۔ ہم تمام شرکت کنندگان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام ایوارڈ وصول کنندگان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں!"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca